

TIME ALLOWED: 15 Minutes

MTN-2-24

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

OBJECTIVE

کل نمبر = 12

سوال نمبر 1

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet.

Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.

Q.No.1

| D                                                     | C                                                       | B                                                          | A                                                            | QUESTIONS / سوالات                                                                                                                                                                                                                                        | Sr.No. |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 60W                                                   | 30W                                                     | 14.5W                                                      | 4.8W                                                         | What is the power rating of a lamp connected to a 12V source when it carries 2.5A current?<br>12V کے سورس سے جوڑے گئے ایک لیمپ کی پاور کی شرح کیا ہوگی جبکہ اس میں سے 2.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو۔                                                              | 1      |
| In vacuum<br>خلا میں                                  | In air<br>ہوا میں                                       | In water<br>پانی میں                                       | In metal<br>مٹل میں                                          | The speed of sound is more:<br>آواز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                               | 2      |
| Will be zero<br>صفر ہوگی                              | Remains the same<br>تبدیل نہیں ہوگی                     | Increases<br>بڑھے گی                                       | Decreases<br>کم ہوگی                                         | If the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire is:<br>اگر میگنیٹک فیلڈ میں عموداً رکھی ہوئی وائر میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھا دیا جائے تو وائر پر عمل کرنے والی میگنیٹک فورس ہوگی۔ | 3      |
| Both of its inputs are "1"<br>B = 1 اور A = 1         | Any of its inputs is "1"<br>B = 1 یا A = 1              | Any of its inputs is "0"<br>B = 0 یا A = 0                 | Both of its inputs are "0"<br>B = 0 اور A = 0                | The output of a NAND gate is "0" when:<br>نینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ صفر ہوگی اگر۔                                                                                                                                                                                | 4      |
| External mail<br>ایکسٹرنل میل                         | Electronic mail<br>الیکٹرونک میل                        | Extra mail<br>ایکسٹرا میل                                  | Emergency mail<br>ایمرجنسی میل                               | What does the term e-mail stand for?<br>ای۔ میل کس شے کا مخفف ہے؟                                                                                                                                                                                         | 5      |
| 93 protons<br>93 پروٹونز                              | 91 protons<br>91 پروٹونز                                | 90 protons<br>90 پروٹونز                                   | 89 protons<br>89 پروٹونز                                     | When Uranium (92 protons) ejects a beta particle, how many protons will be in the remaining nucleus?<br>جب یورینیم (92 پروٹونز) بیٹا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو اس کے پروٹونز کی تعداد کتنی رہ جائے گی؟                                                      | 6      |
| Electroscope<br>الیکٹروسکوپ                           | D.C motor<br>ڈی۔ سی موٹر                                | A.C generator<br>ای۔ سی جنریٹر                             | Transformer<br>ٹرانسفارمر                                    | The device which converts mechanical energy into electrical energy is called:<br>ایک آلہ جو میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے۔                                                                                                          | 7      |
| $v = \frac{\lambda}{f}$                               | $f\lambda = v$                                          | $v\lambda = f$                                             | $f\lambda = v$                                               | The relation between $v$ , $f$ and $\lambda$ of a wave is:<br>ایک ویو کی ولاٹیٹی، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق ہے۔                                                                                                                              | 8      |
| Chemical<br>کیمییکل                                   | Mechanical<br>میکینیکل                                  | Thermal<br>تھرمل                                           | Electrical<br>الیکٹریکل                                      | Which form of energy is sound?<br>سائونڈ انرجی کی کونسی قسم ہے؟                                                                                                                                                                                           | 9      |
| 1878 AD                                               | 1877 AD                                                 | 1876 AD                                                    | 1875 AD                                                      | Alexander Graham Bell made a simple telephone model in:<br>الیکزینڈر گرہم بیل نے سادہ ٹیلی فون کا ماڈل بنایا۔                                                                                                                                             | 10     |
| Upright and virtual<br>سیدھی اور وچوکل                | Upright and real<br>سیدھی اور ریل                       | Inverted and virtual<br>الٹی اور وچوکل                     | Inverted and real<br>الٹی اور ریل                            | Which type of image is formed by a convex lens on a screen?<br>کونسی لینز سکرین پر کس قسم کی امیج بناتا ہے؟                                                                                                                                               | 11     |
| Repels a neutral charge<br>نیوٹرل چارج کو دفع کرتا ہے | Attracts a neutral charge<br>نیوٹرل چارج کو کشش کرتا ہے | Repels other positive charge<br>پوزیٹو چارج کو دفع کرتا ہے | Attracts other positive charge<br>پوزیٹو چارج کو کشش کرتا ہے | A positive electric charge:<br>ایک پوزیٹو الیکٹریک چارج دوسرے۔                                                                                                                                                                                            | 12     |

|                                                                                                       |            |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| PHYSICS                                                                                               | PAPER-II   | GROUP-II | وقت = 1.45 گھنٹے |
| TIME ALLOWED: 1.45 Hours                                                                              |            |          | کل نمبر = 48     |
| MAXIMUM MARKS: 48                                                                                     | SUBJECTIVE | حصہ اول  | MTN-224          |
| NOTE: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper. |            |          |                  |

| SECTION-I  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوال نمبر  | کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔                                                                                                                                                                                                                            | 10 = 2 × 5 | Attempt any five parts.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (i)        | What are damped oscillations? How damping progressively reduce the amplitude of oscillation?                                                                                                                                                                         |            | ڈیمپڈ اوسی لیٹیشنز سے کیا مراد ہے؟ ڈیمپنگ، اوسی لیٹیشن کے امپلیٹیوڈ کو بتدریج کم کرتی ہے؟                                                                                                                                                               |
| (ii)       | Distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable examples.                                                                                                                                                                                        |            | لوئگیٹیوڈ ویل اور ٹرانسورس ویوز کے درمیان فرق کو موزوں مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے۔                                                                                                                                                                      |
| (iii)      | A wave moves on a slinky with frequency of 4Hz and wavelength of 0.4m. What is the speed of wave?                                                                                                                                                                    |            | سلفنگی پر موجیں رتی ہوئی دیو کی فریکوئنسی 4Hz اور ویو لیگتھ 0.4 میٹر ہے۔ ویو کی سپیڈ معلوم کریں۔                                                                                                                                                        |
| (iv)       | What is meant by electric field and electric intensity?                                                                                                                                                                                                              |            | الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک انٹینسٹی سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                       |
| (v)        | In what direction will a positively charged particle move in an electric field?                                                                                                                                                                                      |            | الیکٹرک فیلڈ میں پوزیٹو چارجڈ ذرہ کس سمت میں حرکت کرے گا؟                                                                                                                                                                                               |
| (vi)       | Differentiate between electric potential and potential difference?                                                                                                                                                                                                   |            | الیکٹرک پوٹینشل اور پوٹینشل ڈیفرینس میں فرق واضح کریں۔                                                                                                                                                                                                  |
| (vii)      | What is the difference between D.C and A.C?                                                                                                                                                                                                                          |            | ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ میں کیا فرق ہے؟                                                                                                                                                                                                         |
| (viii)     | Can current flow in a circuit without potential difference?                                                                                                                                                                                                          |            | کیا ایک سرکٹ میں کرنٹ پوٹینشل ڈیفرینس کے بغیر بہہ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                              |
| 3.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (i)        | Calculate the frequency of sound wave of speed $340ms^{-1}$ and wavelength $0.5m$ .                                                                                                                                                                                  |            | سائونڈ ویو کی فریکوئنسی معلوم کیجیے اگر سائونڈ ویو کی سپیڈ $340ms^{-1}$ اور ویو لیگتھ $0.5m$ ہے۔                                                                                                                                                        |
| (ii)       | On what factors loudness can depend? Write its names.                                                                                                                                                                                                                |            | لڈنیز کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟ ان کے نام لکھیں۔                                                                                                                                                                                                   |
| (iii)      | Write two uses of ultrasound.                                                                                                                                                                                                                                        |            | الٹراسائونڈ کے دو استعمالات تحریر کریں۔                                                                                                                                                                                                                 |
| (iv)       | What is the difference between Primary and Secondary memory?                                                                                                                                                                                                         |            | پرائمری اور سیکنڈری میموری میں کیا فرق ہے؟                                                                                                                                                                                                              |
| (v)        | What is meant by information and communication technology?                                                                                                                                                                                                           |            | انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                      |
| (vi)       | Which is more reliable floppy disk or a hard disk for data storing?                                                                                                                                                                                                  |            | فلپی ڈسک یا ہارڈ ڈسک زیادہ بہتر ڈیٹا سٹوریج کے لیے فلاحی ڈسک یا ہارڈ ڈسک زیادہ بہتر کون سی ہے؟                                                                                                                                                          |
| (vii)      | What is meant by Half life of an element?                                                                                                                                                                                                                            |            | کسی ایلیمنٹ کی ہاف لائف سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                 |
| (viii)     | Write down two hazards of radiation.                                                                                                                                                                                                                                 |            | ریڈی ایشن کے کوئی سے دو خطرات لکھیں۔                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (i)        | Define reflection of light and also write the name of the types of reflection.                                                                                                                                                                                       |            | روشنی کی ریفلیکشن کی تعریف کیجیے اور روشنی کی ریفلیکشن کی اقسام کے نام بھی لکھیں۔                                                                                                                                                                       |
| (ii)       | What is meant by regular and irregular reflection of light?                                                                                                                                                                                                          |            | روشنی کی باقاعدہ اور بے قاعدہ ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                  |
| (iii)      | Define Snell's law and write its formula.                                                                                                                                                                                                                            |            | سینل کے قانون کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا لکھیں۔                                                                                                                                                                                                   |
| (iv)       | What is meant by magnetic resonance imaging (MRI)?                                                                                                                                                                                                                   |            | میگنیٹک ریزوننس امیجنگ سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                  |
| (v)        | Define step up and step down transformer.                                                                                                                                                                                                                            |            | سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی تعریف کیجیے۔                                                                                                                                                                                                        |
| (vi)       | Define mutual induction.                                                                                                                                                                                                                                             |            | میوچل انڈکشن کی تعریف کیجیے۔                                                                                                                                                                                                                            |
| (vii)      | Write the name of parts of cathode ray oscilloscope (CRO).                                                                                                                                                                                                           |            | کیٹوڈ رے اوسیلو سکوپ کے حصوں کے نام لکھیں۔                                                                                                                                                                                                              |
| (viii)     | Define electronics.                                                                                                                                                                                                                                                  |            | الیکٹرونکس کی تعریف کیجیے۔                                                                                                                                                                                                                              |
| SECTION-II |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نوٹ۔       | کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔                                                                                                                                                                                                                             | 18 = 2 × 9 | Attempt any two questions.                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (A)        | With the help of diagram derive the formula for the equivalent capacitance for a parallel combination of a number of capacitors.                                                                                                                                     |            | شکل کی مدد سے ہر اہل طریقہ سے جوڑے گئے متعدد کیپیسٹرز کی مساوی کیپیسٹنس کا فارمولا اخذ کریں۔                                                                                                                                                            |
| (B)        | A resistor of resistance $5.6\Omega$ is connected across a battery of $3.0V$ by means of a wire of negligible resistance. A current of $0.5A$ passes through the resistor. Calculate: (a) power dissipated in the resistor. (b) Total power produced by the battery. |            | ایک رزسٹر جس کی رزسٹنس $5.6\Omega$ ہے، اسے ایک معمولی رزسٹنس والی وائر کے ذریعے $3V$ کی بیٹری کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر اس رزسٹر سے $0.5A$ کرنٹ بہتا ہو تو: (a) رزسٹر میں صرف ہونے والی پاور معلوم کریں۔ (b) بیٹری کی کل پیدا ہونے والی پاور معلوم کریں۔ |
| 6.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (A)        | What is meant by flow of information? Describe the function of each part with simple diagram.                                                                                                                                                                        |            | انفارمیشن کے بہاؤ سے کیا مراد ہے؟ سادہ ڈائیگرام کی مدد سے ہر حصہ کی وضاحت کیجیے۔                                                                                                                                                                        |
| (B)        | If at Anarkali bazaar Lahore intensity level of sound is 80dB. What will be the intensity of sound there?                                                                                                                                                            |            | اگر انارکلی بازار لاہور میں سائونڈ کا انٹینسٹی لیول 80dB ہو تو اس سائونڈ کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟                                                                                                                                                          |
| 7.         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (A)        | Define total internal reflection with the help of diagram. Explain.                                                                                                                                                                                                  |            | ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی تعریف کریں اور ڈائیگرام کی مدد سے اس کی وضاحت کریں۔                                                                                                                                                                             |
| (B)        | A step-up transformer has a turn ratios of 1 : 100. An alternating supply of 20V is connected across the primary coil. What is the secondary voltage ( $V_s$ )?                                                                                                      |            | ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں پیکروں کی نسبت 1 : 100 ہے۔ اگر پرائمری کوئل کو 20V کے اے سی سورس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سیکنڈری وولٹیج ( $V_s$ ) معلوم کریں۔                                                                                                |